



محدث فلسفی

## سوال

(115) رٹ کے یا رٹکی کا عقیقہ کس طرح کیا جائے؟

## جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

رٹ کے یا رٹکی کا عقیقہ کس طرح کیا جائے۔ لئے دن کے بعد کرنا سنت ہے۔ ہم نے سوانح میں دیکھا ہے۔ کہ بعد ہفتے کے کرنا سنت ہے۔ اگر ہفتہ کونہ کر سکتا تو کب تک کر سکتے ہیں۔ کتنے بھرے رٹکی کے واسطے اور کتنے رٹ کے کے واسطے؟ بعد ذبح کس کس کو حق حاصل ہے۔ کہ گوشت عقیقہ کا تقسیم کیا جائے۔ اور کون کون لوگ عقیقہ کا ذیح کھانے کے مسمت ہیں۔ اور کہاں بھی کھلانا سنت ہے یا نہیں؟ کیا عقیقہ کے ذیح کی ہڈی توڑی توڑی نہیں جاسکتی۔ تفصیل و تشریح سے جواب دیں۔ (احمد ظہیر احمد خریدار نمبر 9654)

## اجواب بعون الوہاب بشرط صحیح السوال

وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ

الحمد لله، والصلوة والسلام على رسول الله، أما بعد!

عقیقہ کا حکم مثل قربانی کے ہے۔ بختی عمر کا بانور قربانی میں ہو سکتا ہے۔ اتنی ہی عمر کا عقیقہ میں جس طرح قربانی کی تقسیم ہے۔ اسی طرح عقیقہ کی۔ عقیقہ کا اصل وقت پیدائش سے ساتواں دن ہے۔ اگر نہ ہو تو بطور قضا کے چودھواں ایکسواں اقوال ہیں۔ عقیقہ کا گوشت جملپنے اور برادری کے حصہ کا ہواں کو پکا کر کھلادے۔ تو منع نہیں جائز ہے۔ اما الاعمال بالنیات

هذا ما عندی والله أعلم بالصواب

## فتاویٰ ثنا تبہ امر تسری

### جلد 2 ص 83

## محمد فتویٰ